



## ایم سی سی کرکٹ ٹیم جلد پاکستان کا دورہ کرے گی، ایم ڈی پی سی بی وسیم خان

- ایم سی سی کرکٹ کمیٹی اجلاس میں شرکت مثبت رہی، وسیم خان
- ایم ڈی پی سی بی کی ایم سی سی کرکٹ کمیٹی کو پاکستان میں سیکورٹی صورتحال پر بریفنگ

لاہور، 14 اگست 2019ء:

بدھ کے روز نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں یوم آزادی کی مناسبت سے منعقدہ تقریب کے موقع پر ایم ڈی پی سی بی وسیم خان نے کہا کہ ایم سی سی اجلاس میں شرکت مثبت رہی۔ وسیم خان نے کہا کہ اجلاس میں اراکین نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ ایم سی سی کرکٹ ٹیم مستقبل قریب میں پاکستان کا دورہ کرے گی۔

پاکستان کرکٹ بورڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر وسیم خان ایم سی سی کرکٹ کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کے بعد وطن واپس پہنچ گئے ہیں۔ ایم سی سی کرکٹ کمیٹی کا 2 روزہ اجلاس 11 سے 12 اگست تک لندن میں ہوا جہاں پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی مکمل بحالی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

ایم ڈی پی سی بی وسیم خان نے کہا کہ مائیک گیٹنگ کی سربراہی میں منعقدہ اجلاس میں شین وارن اور کمار سنگارا بھی شریک تھے۔ میں نے اجلاس میں پاکستان میں موجودہ سیکورٹی صورتحال پر بریفنگ دی۔

وسیم خان نے کہا کہ میں نے بریفنگ کے دوران شرکاء پر واضح کیا کہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ نہ ہونے کے باعث کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ میں نے پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کی بحالی کی اہمیت پر بھی زور دیا۔

ایم ڈی پی سی بی پر امید ہیں کہ مستقبل قریب میں ایم سی سی کرکٹ ٹیم پاکستان کا دورہ کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ ایم سی سی کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان سے قبل کمیٹی کے تمام سیکورٹی خدشات دور کر دیں گے تاکہ کمیٹی دیگر ٹیموں کو بھی

پاکستان جانے پر راضی کر سکے۔ اس ضمن میں پاکستان کرکٹ بورڈ اور ایم سی سی مسلسل رابطے میں رہیں گے۔

ترجمان ایم سی سی کے مطابق کرکٹ کمیٹی نے انٹرنیشنل ٹیموں کے دورہ پاکستان کی حمایت کی ہے۔ اجلاس میں ایم ڈی پی سی بی وسیم خان نے پاکستان کی موجودہ سیکورٹی اور سیاسی صورتحال سے اراکین کو آگاہ کیا۔ کمیٹی نے ٹیم بھجوانے سے قبل سیکورٹی صورتحال کا جائزہ لینا ضروری قرار دیا ہے۔

پاکستان کرکٹ بورڈ ملک میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی کے لیے کوشاں ہیں۔ ایم ڈی پی سی بی وسیم خان کی ایم سی سی کرکٹ کمیٹی کے اجلاس میں شرکت اور سری لنکا کرکٹ کے سیکورٹی وفد کی پاکستان آمد بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔

سری لنکا کرکٹ کے 4 رکنی وفد نے نیشنل اسٹیڈیم کراچی اور قذافی اسٹیڈیم لاہور کا دورہ کیا تھا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کو اکتوبر میں 2 ٹیسٹ میچوں کے لیے سری لنکا کرکٹ ٹیم کی میزبانی کرنی ہے۔

ستمبر میں کرکٹ آسٹریلیا اور اکتوبر میں انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ کے اعلیٰ عہدیدار ان بھی پاکستان کا دورہ کریں گے۔

یوم آزادی کی مناسبت سے پرچم کشائی کی تقریب نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں منعقد کی گئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی ایم ڈی پی سی بی وسیم خان نے پرچم کشائی کی۔ اس موقع پر ایم ڈی پی سی بی وسیم خان نے قوم کو جشن آزادی کی مبارکباد دی۔ تقریب میں ڈائریکٹر ڈومیسٹک کرکٹ ہارون رشید، جنرل منیجر اکیڈمیز علی ضیاء، جنرل منیجر لیگل سلمان نصیر اور پی سی بی اسٹاف نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔

– ENDS –

Media contact:

**Ibrahim Badees Muhammad**

Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: [ibrahim.badees@pcb.com.pk](mailto:ibrahim.badees@pcb.com.pk)

M: +92 (0) 345 474 3486

W: [www.pcb.com.pk](http://www.pcb.com.pk)

## ABOUT THE PCB

The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan. Its goal is to work in partnership with its stakeholders to promote, develop and grow the game throughout the country.

The PCB's purpose is to maintain and enhance the reputation and integrity of the game, fostering excellence and upholding the spirit of the game. The PCB selects junior and senior national men's and women's cricket teams to represent the country on the global stage, runs high performance cricket centres across the country and plans and organises domestic competitions and international bi-lateral series.

The PCB is committed to developing ground and facility infrastructure, monitoring the implementation of playing codes and regulations, and supporting the game at every level through its high quality training provision for officials and coaches.

### Commercial Partners



[www.pcb.com.pk](http://www.pcb.com.pk) ●  
@therealpcb ●  
@PakistanCricketBoard ●  
@PakistanCricketOfficial ●  
@therealpcb ●

**PCB Headquarters**  
Gaddafi Stadium  
Ferozpur Road, Lahore  
Pakistan, PO Box 54000  
T: +92 42 3571 7231-4